

CANDIDATE
NAME

CENTRE
NUMBER

--	--	--	--	--

CANDIDATE
NUMBER

--	--	--	--



URDU AS A SECOND LANGUAGE

0539/01

Paper 1 Reading and Writing

May/June 2019

2 hours

Candidates answer on the Question Paper.

No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

This document consists of **13** printed pages and **3** blank pages.

مندرجہ ذیل اشتہار کو غور سے پڑھیں اور دوسرے صفحے پر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔

سوال نمبر: 1 تا 6

انجمن "محبانِ اردو" کی زیرِ نگرانی ایک شام غزل کا اہتمام اردو زبان کے چاہنے والوں کے نام

اس محفل میں مقامی فن کاروں کے علاوہ وطن عزیز سے نامور گلوکار "روشن علی" اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔

اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں آپ کے لیے:

- پرانے اور نئے گیت، شاندار موسیقی کے ساتھ
- آپ کے پسندیدہ ستاروں کی خوبصورت آوازیں
- کھانے پینے کا بہترین انتظام

یہ رنگارنگ پروگرام 14 اگست کو شام سات سے گیارہ بجے تک الحمرالندن سینٹر میں پیش کیا جائے گا۔

آپ کی تشریف آوری سے فن کاروں کی حوصلہ افزائی ہو گی۔

پروگرام عین وقت پر شروع ہو گا اس لیے وقت کی پابندی لازمی ہے۔ دیر سے آنے والے لوگ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔

ایک ٹکٹ کی قیمت 20 پونڈ۔ پہلے دس ٹکٹ خریدنے والے افراد کو ایک ٹکٹ 15 پونڈ میں۔

ٹکٹ دروازے پر نہیں ملیں گے۔ اس لیے اس نمبر پر 07771238808 رابطہ کریں اور پیشگی ٹکٹ خریدیں۔

اس پروگرام سے اکٹھی ہونے والی رقم کا 5 فیصد حصہ معذور بچوں کے خیراتی ادارے "المؤمن" کو دیا جائے گا۔

پچھلے صفحے پر دیے گئے اشتہار کو پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔

1 انجمن نے اس پروگرام کا انتظام کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟

[1]

2 روشن علی کا تعلق کس پیشے سے ہے؟

[1]

3 کس قسم کے گانے پیش کئے جائیں گے؟

[1]

4 دیر سے آنے پر کیا ہو گا؟

[1]

5 لوگوں کو کب تک خریدنے کا مشورہ دیا گیا ہے؟

[1]

6 اس پروگرام سے جمع ہونے والی رقم کن پر خرچ کی جائے گی؟

[1]

[6:] کل [

مشق نمبر : 2

عبدالستار ایدھی کے بارے میں لکھی گئی تحریر پڑھ کر دوسرے صفحے پر دیا گیا فارم پُر کریں۔

سوال نمبر: 7

عبدالستار ایدھی کا سنبھری دور

عبدالستار نے 1928 عیسوی میں بھارت کی ریاست گجرات میں آنکھ کھولی، بچپن سے ہی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی والدہ ذیابیس کی مریضہ تھیں اس لیے گیارہ برس کی عمر میں ہی ان کی تیارداری کی ذمہ داری خوشدلی سے اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ انہیں برس کی عمر میں بھرت کر کے کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ ایک ڈاکٹر کی مدد سے ڈسپنسری کھولی اور ان کے مددگار کی حیثیت سے وہاں کام کرنے شروع کیا اور ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے رہے۔

1957 میں کراچی میں فلوکی و باپھیلی توایدھی نے تن من کی بازی لگا کر اپنے رضاکاروں کے ساتھ مل کر شہر سے باہر خیسے لگا کر مریضوں کا مفت علاج کیا۔ ان کے اس بے لوث جذبہِ خدمت سے متاثر ہو کر شہر کی امیر ہستیوں نے مالی مدد کی تو ڈسپنسری کے ساتھ والی عمارت خرید کر اسے زچگی سنٹر بنادیا گیا۔ مدد کا یہ سلسلہ جاری رہا، امیر لوگ دل کھول کر اس کا رخیر میں حصہ لیتے رہے اور یہ ایدھی کارروائی بڑھتا چلا گیا۔ ایدھی ایمبو لنസ کا پورے پاکستان میں جال بچھ گیا۔ جن علاقوں میں ایمبو لنس کا جاناد شوار تھا وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مدد پہنچانے کا بندوبست بھی موجود تھا۔ ایدھی کا کہنا تھا کہ ہماری سروس دنیا کی تیز ترین سروس مانی جاتی ہے۔ ایدھی کے بے شمار اداروں نے اپنے ملک کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی شہرت حاصل کی۔

ایدھی نے تمام عمر ایمان داری سے کام کیا اور اپنی تنظیم کے بجٹ سے کبھی بھی ایک پائی تک ذاتی استعمال کے لیے خرچ نہیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر دن کام پر گزار کے پاکستان میں ایک الگ قسم کا ریکارڈ قائم کیا۔ ایدھی نے 2015 میں اس جہانِ فانی سے کوچ کیا۔ انہیں توپوں کی سلامی دی گئی اور ایک قومی ہیرود کی طرح بڑے اعزاز سے دفنایا گیا۔

پہلے صفحے پر عبدالستار ایدھی کے بارے میں دی گئی معلومات پڑھ کر فارم پُر کریں۔

عبدالستار ایدھی

مثال: پورا نام: عبدالستار ایدھی

پیدائشی وطن:

[1]

کراچی میں پہلی ملازمت کی نو عیت:

[1]

دباری بیماری کے علاج کا خرچہ:

[1]

ایدھی تنظیم کو کامیاب بنانے والے لوگ:

[1]

ڈسپنسری سے ماحقہ عمارت کا نام:

[1]

ایدھی ایکسپریس سروس کی خوبی:

[1]

انوکھا ریکارڈ قائم کرنے کی وجہ: برائے مہربانی صحیح جواب کے خانے میں ٹھیک کا نشان لگائیں۔

[1]

توپوں کی سلامی دی گئی

چھٹی بالکل نہیں کی

خود پر پیسہ خرچ نہیں کیا

[7:] کل

مشق نمبر : 3

لبی عمر کے بارے میں تفصیلات پڑھ کر دوسرے صفحے پر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔

سوال نمبر : 8 تا 10

یہ سچ ہے کہ آج کل غیر صحیح بخش کھانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ بچوں، نوجوانوں، اور بڑھوں کی اکثریت فاست فوڈ مثلاً اپیزا، بر گر، چیپس اور دیگر تلے ہوئے کھانے نہایت شوق سے کھاتی ہے۔ ان کے منفی اثرات سے واقف ہونے کے باوجود لوگ ان سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی خواراک میں کھائیں، بلکہ انہیں اچھی اور متوازن خواراک کا عادی بنائیں۔ بچوں کو اندھے، مچھلی اور گوشت کے علاوہ روزانہ پانچ سبزیاں اور پھل کھانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو بچوں کی جسمانی نشوونما میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یادداشت اور ذہنی صلاحیتوں کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتے ہیں۔

سامنے دنوں نے یونان کے ایک جزیرے "ایکاریا" کے باشندوں کے طرز زندگی پر غور و غوض کیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اس جزیرے کے لوگ دوسرے یورپین لوگوں کی نسبت اوسطاً تقریباً دس برس زیادہ جیتے ہیں۔ ان کی اس لمبی عمر کی وجہ پھلوں اور سبزیوں کا فراوانی سے استعمال ہے۔ گائے بھینس کے دودھ کی بجائے بکری کا دودھ شوق سے پیتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں والی چائے پینا پسند کرتے ہیں جس میں پودینہ اور شہد خاص طور پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں لہذا گوشت کی بجائے مچھلی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا استعمال بھی ان کی صحیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ خواراک کے علاوہ دو اور قدرتی عوامل بھی "ایکاریا" کے باشندوں کی درازی عمر کا سبب ہیں۔ یہ جزیرہ چونکہ وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس لیے اوپر مجھے آنے جانے کی محنت و مشقت ان لوگوں کو چست اور توانا رکھتی ہے۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو فوکیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ بہت مشقناہ ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے ان کے بزرگ مايوسی اور تہائی کا شکار کم ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی رفتار نہ زیادہ تیز ہے اور نہ ہی بہت سست، شاید اسی لیے یہ لوگ زیادہ دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ تروتازہ اور آلودگی سے پاک آب و ہوا بھی ان کی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ سکریٹ نوشی بھی بہت کم کرتے ہیں بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک صحیت مند زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔

پچھلے صفحے پر لمبی عمر کے بارے میں لکھی گئی معلومات پڑھ کر آپ "اچھی صحت کے راز" پر ایک مضمون لکھ رہی/ رہے ہیں۔ مضمون کا خاکہ نکات کی شکل میں تیار کریں۔ اپنے نکات مندرجہ ذیل سرنخوں کے تحت لکھیں:

	
	- متوازن غذا کے جسم پر اثرات 8
[1]	•
[1]	•
[1]	•
	- "ایکاریا" کے باشندوں کی پینے کی پسندیدہ اشیا 9
[1]	•
[1]	•
	- "ایکاریا" کے باشندوں کی اچھی صحت کی ماحولیاتی وجوہات 10
[1]	•
[1]	•

کل [7:]

مشق نمبر: 4

خودکار کاروں کے بارے میں درج ذیل تفصیل پڑھیں اور دوسراے صحیح پر دیے گئے سوال کا جواب لکھیں۔

سوال نمبر: 11

خودکار کاریں / خود بخود چلنے والی کاریں

سب سے پہلی موڑ کا تقریباً 132 سال پہلے بنائی گئی، تب سے آج تک اس کی شکل اور ساخت میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ کار نے انسان کی زندگی میں سفر کے حوالے سے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی ناممکن ہے۔ کار ساز کمپنیاں ہمیشہ سے اس کو شش میں رہی ہیں کہ لوگوں کی ضرورت اور شوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ مارکیٹ میں نئی سے نئی گاڑی لائیں۔ ابھی تک کار چلانے کے عمل کا دار و مدار انسان پر ہی تھا مگر اب اس میں ایک نمایاں تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ مستقبل قریب میں ایسی کاریں مارکیٹ میں آجائیں گی جو ڈرائیور کے بغیر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ سڑکوں پر جب ڈرائیور والی اور خودکار کاریں ایک ساتھ دوڑیں گی تو یقیناً مشکلات پیدا ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں نظام کا چلنام صیبت کو دعوت دینا ہے۔ مشین کا کیا بھروسہ چلتے چلتے پیچ پورا ہے میں خرابی ہونے کی صورت میں دوسری گاڑیوں سے ٹکرا جائے۔ ایسی صورت میں ڈرائیور والی گاڑیاں اپنا بچاؤ کیسے کریں گی۔

اس بات کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس کے نتائج سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ تقریباً 37 فی صد لوگ ایسی کاریں استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ باقی ماندہ 63 فی صد لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ ہم مشین پر کلی طور پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح تو اک شور بے ہنگم کھڑا ہو جائے گا۔ پارکنگ کے وقت بھی مسائل پیش آنے کے امکانات موجود ہیں۔ موجودہ طرز کی گاڑیوں کو خودکار کاروں میں بدلتے کے لیے قابل اعتماد ماہرین درکار ہونے گے جن کی کمی کی وجہ سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور تشویش یہ بھی ہے کہ خودکار کاروں کے استعمال اور ڈرائیونگ کی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے بوقت ضرورت ہمیں مشکل پیش آسکتی ہے۔

ان اندیشوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے گوگل کے ملازمین نے تجربے کے طور پر خودکار کاروں میں تقریباً ڈولاکھ میل کا سفر بخوبی سرانجام دیا ہے۔ بڑی بڑی کار بنانے والی کمپنیوں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ تمام جدید تر گلکنی صلاحیتوں اور موافقات کے نظام کو یکجا کر کے یہ خودکار کاریں بنائیں گی اور حفاظتی نکات کی طرف خاص طور پر توجہ مندوں کی جائے گی۔ سروے کے مطابق صرف 20 فی صد لوگ اپنی کاروں کو خودکار کاروں میں بدلتے پر 3 ہزار ڈالر تک کی رقم خرچ کرنے پر رضامند ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ باقی 80 فی صد ابھی سوچ میں غلطان ہیں اور اضافی اخراجات کے حق میں نہیں ہیں۔ کتنی بھی یقین دہانی کرائی جائے لوگوں کے خدشات اپنی جگہ ہیں۔ اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟

پچھے صفحے پر خود کار کاروں کے بارے میں لکھی گئی معلومات پڑھیں اور لوگوں کے خدشات کے بارے میں ایک خلاصہ لکھیں۔ آپ کا خلاصہ تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔

خلاصے کے مواد کے 6 مارکس اور صحیح زبان کے 4 مارکس دیے جائیں گے۔

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[10: کل:]

گدا گری کے مسائل پر دی گئی معلومات پڑھیں اور دوسرے صفحے پر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔

سوال نمبر: 12 تا 18

گدا گری ایک سنگین مسئلہ

ایکسوں صدی میں داخل ہونے کے باوجود دنیا بھر میں سنجیدہ مسائل کی کمی نہیں بلکہ ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح گدا گری بھی ایک ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلیں جائیں گدا گر کسی نہ کسی روپ میں مل ہی جائیں گے۔ بھیک مانگنے کے پیچھے عوامل کچھ بھی ہوں مگر دوستیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو مجبوری اور مشکل حالات کی وجہ سے یہ پیشہ اپناتے ہیں مثلاً بھر ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے وہ جو اپنی مرضی سے یہ راستہ چلتے ہیں۔ اگر ہم اس پر مزید غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس کی کئی دوسری وجہات بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ غربت، بے روزگاری اور نشے کی عادت۔

کچھ ممالک میں بھیک مانگنے کے باقاعدہ اڑے موجود ہیں۔ جرام پیشہ لوگ معصوم بچوں کواغوا کر کے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور بھر ان سے بھیک مانگنے کا کام کرواتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کا اس آمدنی پر کوئی حق یا اختیار نہیں ہوتا۔ ٹیلیویژن اور اخبارات اکثر ایسے مسائل عوام کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ خبردار رہیں۔ اب تو برطانیہ میں بھی اس طرح کے منظم گدا گر نظر آتے ہیں۔ آپ کو عین شہر کے وسط میں اور ارد گرد کے علاقوں میں بے گھر لوگ گدا گروں کا روپ دھارے مل جائیں گے۔ برطانیہ میں صحیح معنوں میں بے گھر لوگوں کے لیے ایکیم بنائی گئی ہے، جیسا کہ رسالہ نقچ کر آمدنی حاصل کرنا۔ مگر منظم شدہ فقیر ایسی ایکیموں میں حصہ نہیں لیتے۔ بلکہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح سے بھیک مانگنا برطانیہ میں غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔

کچھ لوگ جو شہر کے مرکزی علاقے کو دیکھنے یا خریداری کی غرض سے آتے ہیں تو وہ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مشہور تاجر کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے مرکزی علاقے سے اپنی دکان اس وجہ سے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گاہک بھکاریوں کو دیکھ کر دول میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور وہاں آنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ باقی تاجروں کا بھی یہی خیال ہے کہ گدا گروں کی موجودگی سے ان کی تجارت پر منفی اثر پڑتا ہے۔

برطانیہ میں ایک ایسا اچھا نظام موجود ہے کہ جہاں حکومت ہر شخص کی کھانے پینے کی ضروریات مہیا کرتی ہے وہاں عام لوگ بھی اس کام میں شامل نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت سرڈھانپنے کے لیے چھت کا انتظام بھی کر سکتی ہے۔ مزید یہ کہ خیراتی ادارے بے گھر اور دیگر ضرورت مندوں کوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسی تنظیمیں محسوس کرتی ہیں کہ مناسب حد تک انتظام موجود نہیں اور ہمیں ان لوگوں کی مدد کی مزید کوشش کرنی چاہیے۔

ایک طرف تو حکومت نے ہر شہر کے مرکزی علاقے میں شاندار عمارت بنانے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف انسان ہیں کہ ان عمارت کے سامنے بے بسی کی منہ بولتی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے لیے تربیتی پروگرام رکھے یا پھر انہیں رضا کارانہ طور پر ہفتے میں چند گھنٹے کام کرنے کے موقع فراہم کرے تاکہ وہ اپنے وقت کو ثابت انداز میں صرف کریں۔

- پچھلے صفحہ پر "گداگری کے مسائل" پر دی گئی معلومات پڑھ کر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔
- 12 بھکاریوں کی دو اقسام کی وضاحت کریں۔

[1]

[1]

- 13 بچوں کو گداگری میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

[1]

- 14 متن کے حوالے سے برطانیہ میں بنائی گئی خاص اسکیم کا مقصد کیا ہے؟

[1]

- 15 تاجر گروں سے کیوں پریشان نظر آتے ہیں؟

[1]

- 16 برطانوی نظام کی دو خوبیاں بیان کریں۔

[1]

[1]

- 17 برطانیہ میں گداگری کے حوالے سے امدادی نظام کے بارے میں فلاجی تنظیموں کی سوچ کیا ہے؟

[1]

- 18 مصنف کی رائے میں حکومت کو گداگری سے نپٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں لکھیں۔

[1]

[1]

[10:] کل

مشق نمبر: 6

مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے درج ذیل عنوان پر ایک مضمون لکھیں۔

سوال نمبر: 19

آپ کے اسکول / کالج نے مضمون نویسی کا ایک مقابلہ رکھا ہے۔

آپ "کھیلوں کے مقابلے" کے عنوان پر ایک مضمون لکھیں۔

آپ کا مضمون 150-200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔

آپ چاہیں تو مندرجہ ذیل نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔

- کھیلوں کے مقابلے کے دو ثابت پہلو
- کھیلوں کے مقابلے کے دو منفی پہلو
- مستقبل میں کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلے

مضمون کے مواد کے 10 مارکس

اور صحیح زبان کے استعمال کے 10 مارکس

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which itself is a department of the University of Cambridge.